



## سوال

(203) جلسہ استراحت کا حکم

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جلسہ استراحت کا کیا حکم ہے؟ جب امام جلسہ استراحت نہ کرتا ہو تو کیا مقتدی امام کی مخالفت کرتے ہوئے جلسہ استراحت کرے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جلسہ استراحت سنت ہے، اس مسئلہ میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب زاد المعاد میں نقل کردہ بحث سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ انھوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کی وجہ سے جلسہ استراحت کیا تھا اور یہ عام لوگوں کے لیے مسنون و مشروع نہیں ہے۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صحیح بخاری وغیرہ کی ثابت شدہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ابو حمید ساعدی نے ایک دن اپنے ساتھیوں کو کہا، جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے: "کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟" صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا: "تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہم سے زیادہ جلنے والا نہیں ہے،" ابو حمید نے کہا: "کیوں نہیں (میں جلنے والا ہوں)" انہوں نے کہا: "پہچا تو پیش کرو،" تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر ان کو بتائی اور جب وہ دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے لگے تو انھوں نے جلسہ استراحت کیا، پھر (دوسری رکعت کے لے) اٹھے اور اس طرح انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز بیان کی تو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا:

"تو نے سچ بیان کیا ہے، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی تھی۔"

پس ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ سات صدیوں کے گزر جانے کے بعد اس جلسہ استراحت کی علت بیان کرنے چلے ہیں جبکہ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں، پس وہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ جلنے والے ہیں اور انھوں نے یہ جلسہ استراحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "المجموع شرح المہذب" میں اس موقف کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ لائق ہے کہ وہ جلسہ استراحت والی سنت کی محافظت کا اہتمام کریں کیونکہ یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

اور جب امام جلسہ استراحت نہ کرے تو مقتدی کو اس کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ امام کی پیروی کرنا نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا يُجْعَلُ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيَّ، فَإِذَا كَثُرَ فَخَيَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَامَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَتَوَلَّوْا: رَبَّنَا وَكَلِّمْنَا النَّحْدَ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ." [1]

"امام تو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے تو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم کہو: رَبَّنَا وَكَلِّمْنَا النَّحْدَ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز ادا کرو۔"

پس یہ حدیث امام کی اقتداء کے ضروری ہونے کی تائید کرتی ہے۔ [2]

(علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ)

[1] - صحیح البخاری رقم الحدیث (371)

[2] - اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء انہی امور میں کی جائے گی جو مذکورہ بالا حدیث میں مذکور ہیں۔ اور ایسے امور میں امام کی پیروی درست نہیں جو وہ سنت کے خلاف ادا کرے، کیونکہ امام کی پیروی صرف انہی احکام میں درست ہے جو شرعاً صحیح ہیں نہ کہ ان امور میں جن میں امام سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لہذا اگر امام مسنون جلسہ استراحت نہیں کرتا تو اس کی پیروی نہیں ہوگی کیونکہ وہ خلاف سنت امر کا ارتکاب کرتا ہے۔ بلکہ مقتدی مسنون جلسہ استراحت پر عمل کرے گا۔ (مترجم)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 197

محدث فتویٰ